

March 06, 2025/59080

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

SUBJECT:

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING- POSTAL BALLOT

AND E-VOTING.

Dear Sir,

This is in continuation of our earlier notice of Extra Ordinary General Meeting dated February 28, 2025.

Please find attached copies of cutting of Notice of Postal Ballot Paper and provision of Electronic Voting Published in Business Recorder and Daily Nawa-e-Waqt on March 05, 2025.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

For and on behalf of

LSE Ventures Limited

Inam Ullah

Company Secretary



ایل ایس ای وینچرز لمیثد



ای ووٹنگ کا طریقه کاراور بیلٹ پہیج

ایل ایس ای و یخ زلمیند (ایل ایس ای وی ایل/ "وی مینی") کے 28 فروری، 2025 کوشائع ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے تلسل میں اور کینیز (پوشل بیلث) ر گولیشنز، 2018 ("ر گولیشنز") کے مطابق، ندکوره ضوابط میں شامل طریقه اورشرائط میں الیکٹرا تک ووٹنگ سہولت (ای دوٹنگ) اور ڈاک (پیٹل بیلٹ) کے ذریعے ووٹنگ کاعق رائے دی خصوصی امور کے ایجیڈ ایٹٹم کے لئے کمپنی کے مبرول کوفراہم کیاجائےگا۔ میسرز ڈیجیٹل کشوڈین کمپنی لمیٹڈکوای دونگ کے لئے سروس فراہم کنندہ مقرر کیا گیا ہے۔

اي ووثنك كاطريقة كار

وہ میران جن محموبال فیرزاورای میل ایڈر میر مینی کے رجمر میں 12 مارچ 2025 کے کاروباری اوقات کے اختیام تک موجود ہوں کے ، ووٹک کے اہل ہوں گے۔ ر گولیشنز کی دفعات کے تحت بروز جعرات 20 مارچ 2025 و کوئی 09:30 بچ منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کے ایجنڈ استم کے لئے ذکورہ بالاضوابط میں شامل نقاضوں اور شرائط کے تابع کمپنی کے ممبران کوالکیشرا مک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپناحق رائے دہی استعمال کرنے اور ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔ای ووٹنگ 17 مارچ 2025 كون 90:00 بي شروع موكى اور 19 مار 2025 كوشام 5:00 بي بند موكى - اركان اس مت كدوران كى بھى وقت اپناووت ۋال سكتے ہيں - ايك بار جب اركان كى قرارداد بردوف دےدیے بن قوانیس اے تبدیل کرنے کی اجازے ٹیس دی جائے گی۔

بوشل بیک کے ذریعے ووٹنگ کاطر لقہ کار

مران اس بات کویقنی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی کے ساتھ با قاعدہ طور پر کہ اور دستخطاشدہ بیلٹ ہیپر چیئر مین تک ڈاک کے ذریعے کمپنی کے رجشر ڈ ایٹرریس ایل ایس ای پلازہ، 19 کشیر ایجرش روڈ، لاہور پر یا inamullah@lse.com.pk پرای میل کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 19 ماری 2025 تك صدرا جلال تك يني ما عديد بير رو تخط شاخى كار دُرو تخط عمال مون على -

ممران کی سولت کے لئے بیلٹ بیپرنوٹس بذا کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کونی کی ویب سائٹ www.lse.com.pk پرے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جاسکتا ہے۔

بروز جعرات، موراد، 20 مارچ، 2025 وكون 30:90 بج مليني كرجشر وفتر، آؤينوريم، المجيني حب، الل الس اى بلازه، 19 كشميرا يجرش روز بالهور برمنعقد بون والي غير معمولي اجلاس عام میں ڈاک کے ذریعے دونگ کے لئے بیلٹ پیر۔

چير مين كرابطه كي تفصيلات، جبال با قاعده پرشده بيك پير بهجاجاسكتا ہے۔

كاروبارى يية: چيتر مين،

الل الس اى وتير زلمينة ، يميخ حب، الل الس اى يلازه، 19 مشميرا يرش رود ، لا مور

ناحردواي ميل ايدريس: inamullah@lse.com.pk

The second of th	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	شيئر بولذرامشتر كشيئر بولذرذ كانام
	رجرؤالمريس
The second secon	رجشر ڈایڈریس ملکنتی حص کی تعداداور فولیونبر
	CNIC نمر (کا بی شک ہو)

1 1900 20	19 18 19	على فالعداد الرويد بير .	
عي رضامندي يا	1580BKC	نمبر (کا پی نسک ہو) معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ ،کارپوریش اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں) معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ ،کارپوریش اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں اور ڈیل میں مناسب باس میں تک (NIC
Filedolas S	-070()	نمبر(کا کی فسلک ہو) معلومات اوروضاحتیں (باڈی کاربوریٹ، کاربوریش اوروفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں) معدومات اوروضاحتیں (باڈی کاربوریٹ، کاربوریٹ اوروفاقی حکومت کے نوسے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں تک (م مهمندرجہ ذیل قرار دادول کے سلسلے میں پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں تک	اضافي
Tue int	1 14	م مندرجه ذیل فراردادول کے مسلم کی کی کا مسلم کی ایک کا مسلم کی ایک کا مسلم کی ایک کا مسلم کی کا مسلم کی کا مسلم	7/02
یں/ہمقرارداوں رے خلاف	على المع ارداول	المراعدة المراجعة الم	اختلاف
(AGAINST)	پرضامندیں (FOR)	ن ما كافو ما الصيل	
The State of the S	17,000,000		انحندا
AND NOTES	A BILL OF	المان	<i>/</i> ·
Dayster .		" قرار پایا ہے کہالی الیں ای وینچ زلینڈ – رقمہ جاہمی اینکہ طور میں موسور "قرار پایا ہے کہالی الیں ایک وینچ زلینڈ – رقمہ جاہمی اینکہ ساتھ مندرجہ ذیل شامل ہیں: "شیئر بولڈرز کی منظور کی وی کے جس میں دیگر چیز ول کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل شامل ہیں:	1
in the Sal		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1
		1 کینی کے موجود صفی داروں کوجاری کیا جائے۔ 2 کینی کے پورڈ آف ڈائر کیٹرزی طرف سے طیل جانے والی اجراء کی رقم اورادقات؛ 2 کینی کے پورڈ آف ڈائر کیٹرزی طرف سے خاک جانے دائیس ہوگی اورا سے قسطوں میں ایک طور پر جاری کیا جاسکتا ہے۔	+
Kalifornia		ا جاراء کار ام کار ام 155,174,560 جا تا کار ما چارت کے ساتھ) جب تک کہ سلول اور افعات و مرت رہے ہ	1
		2 کمپنی کے بورڈ آف ڈائر میٹرزی طرف سے کے بابعث ہوگی اورا سے نظوں میں یا ممل طور پر جاری کیا جاسل ہے۔ 2 اجراء کی قر 155,174,560 روپے نے اندئیس ہوگی اورا سے نظوں میں یا کمب بھی کو واقعات کو حرک کرنے پر مہنی کے عام 4 سکوک قابل واپسی میں (104 سال کا مدت میں ایک سال کی رعایتی مدت کے ساتھ کا بھی میں اور کہ بھی کے اور کا مار میں کا موجود کا موجود کی میں اور کمبین کر 100 ماری کا ماری کیا ہے۔	1
		على تكريد ل ين يون على المستحد المريد المريد المريد المريد المرودة شرائط وصوابط مع مطابل من المريد ا	1
MAN LANGE	100	2,155 174 560	
Mary 1	49.22	71830152	
the way		30,00 (()	
		ساوی/برائے نام قدر روپیاسکوک 30.00 جاری کردہ تیت روپیاسکوک 30.00	
Andrea .		ا شطب عدو 0.00	
	3.018	5.00 () - 1.00 () - 1.00	4
	100 1	تدريلي كا تناب عدو 179,597,880 حصص بقايا عدو 179,597	
		71 820 152	
	100	تاد لے تصفی (زیادہ سے زیادہ)* عدد	
LEGEN LINE	و فيصله	عادے کی است عبد ملی قیت رو پراهم 30.00 عبد میں اور اور پراهم اور کام	
Jees A 13	100	تبدیلی کی قیت روپے استعمال میں ہورہ ان اور کیا ہے۔ اور کی تیت روپے استعمال کی جائٹر کی نے بیروڈ آف ڈائر کیٹرز کی طرف = * بیزیادہ سے زیادہ تبدیلی بونس سکوک (موجودہ شیئر ہولڈرز کو) کے لئے استعمال کی جائٹر کی ہے۔ اور جسمجھ کی بیش آف ماکستان (اور	
mark Same	ر چی ی	* پیزیادہ سے زیادہ تبدیلی بوٹس سکوک (موجودہ میٹر ہولڈرزی سے سے بعث میں ہوئی۔ کیا گیا۔ کی تاب اورا جماء کی دیگر شرائط دخوابط کواس وقت تک تبدیل نہیں کیاجائے گاجب تک سیکیو رشیز اینڈ ایک چینج کیشن آف یا کستان (اور 6۔ تباول کا تناسب اورا جماء کی دیگر شرائط دخوالوں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می	
() ware	22.31	ا المستراد المراجراء في دير سرائط و سوابط كوال و تصليب بلي ما المستراج بالمرتب المادون و قبول كرني كالقبيار و كالوسار و كالمستراء و المراجع المستراء على المستراء و كالمستراء	
- foot	-52	طرف نے تبول) کی ہوایت ندی جائے۔ پی سے بورو ال مصطبح اللہ میں معظوری دی جا عربید منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ عربید منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ عربید منظوری کی خورت نہیں ہوگی ۔ عربید منظوری کے خورت نہیں ہوگی ۔ عربید منظوری کی کرنے کی منظوری کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے	
1	THE ONLY	عظر بلا مراد الما كينزا يك 2017 كي وفعه (8)(8) 8 تحت 15,839 أوراده عدد المسمد الما كينزا يك 2017 كي وفعه المسمد الما كان الما كينزا يك 2017 كي وفعه المسمد المسمد الما كان المسمد المسم	
		ا کو کو کئی 200,000,000 د د کا 10.00 رو کے 200,000,000	
	1912/01	مزید قرار پایا کئینزا کید 2017 کی دفعہ (ط)(1) 33 کے مصلیم کشیم کیا جاتا ہے۔ سوک کوئینی کے 71,839,152 زیادہ سے اور قصاد) عام مصلیم میں کشیم کیا جاتا ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مجاز مرائے 2,000,000,000 دیے جو کہ ہراک 300,000,000 مار صفی میں تشیم شدہ کیا جاتا ہے۔ برھاکر 200,000,000,000 دوئے جو کہ ہراک 10,000 دی ہے 6,000,000 مار صفی میں تشیم کرنے کی کمپنی کیارٹری کو منظوری دی مزید قرار پاک کر مجاز مرائے کی تبدیلی کے لئے کمپنی کے میموریفر مراور آرینگلز آف ایسوی ایش میں تراہم کرنے کی کمپنی کیارٹری کو منظوری دی	
		إرهار (000,000,000) و ترقيق مرميوريغم اورآ رغيز آف اليوي ايس سارا- ارك	
No.	300,000	مزیز آر ایا کرمجاز سرائے فی تبدی کے علی صفحہ استفادہ مزید کر ایا کہ مجاز سرائے فی تبدیلی کے 0,000 مزید کی ہے: منظوری دی تئی ہے: " تبینی کا مجاز سرمایہ 3,000,000,000,000 روپے (صرف تین بلین روپے) جو کہ ہرائیں۔/10 روپے (صرف دی روپے) کے 0,000	
0000	الط يراوركي	" سميني کا مجاز سرمايي 3,000,000,000,000 روچه رسمزك مي يه ماين کا مجاز سرمايي شارک شرک مي ماين که اس شارکا و خوا	
	صورت میں	" کمپنی کا مجاز سرماہی 000,000,000 و چیر سرگ میں گئیں۔ (عین سولین) عام صصص میں نشیم کیا گیا ہے۔ حزید قرار پایا ہے کہ سکوک بورڈ آف ڈائر کیٹرز کے کشرول میں ہوگا جوا پیے افر اور فرموں ، کار پوریشنوں کو اسکی شرائے وسرک حزید قرار پایا ہے کہ سکوک بورڈ آف ڈائر کیٹرز کے کشرول میں ہوگا جوان کے مطابق الاٹ، جاری، مضیط، سرینڈرز، نویش یا دوسرک	
1		ر تین سولین) عام صفع می سیم کیا گیا ہے۔ حزید قرار پایا ہے کہ سکوک بورڈ آف ڈائز میکٹرز کے کنٹرول میں ہوگا جوا سے افراد، فرموں، کارپوریشنوں یا کارپوریسوں تو اس کا دوسرک جمعی وقت جو میں سیسم جھا جائے کیمیٹرز کیکٹرز کی دفعات کے تالع اوران کے مطابق الاث، جاری، شیا، مرینٹر زر توثیق یا دوسرک جمعی وقت جو میں سیسم جھا جائے کیمیٹرز کیکٹرز کیکٹرز کے دفعات کے تالع اوران کے مطابق الاث میں میں میں میں میں ا	
Para Land	Salve !	ا فرونت رسلام- عن ميزيك دي كورافقار دماجاتا بحكرده سكوك كماجراء برزي الوست ميزيك وي من	
A. S.	اور فدكوره بالا	ا نے فروئت کرسکتا ہے۔ مزید قرار پایا کہ نتائی کے چیف انگیز یکنواور کپنی سکر بیڑی کو بیافتیار و پاجاتا ہے کہ دو سکوک کے اجراء پرفتی مانو پیشنواور کپنی سکرٹری مل مزید شرار پایا کہ نتائی کے چیف انگیز بہنر اور مقرار شیر و اور ضروری اقدامات کر کی کریڈٹ رینٹ کا بجنسیز چیئیز رجنر ار داور کی گل ورآید کریں اور قانون کے تب یاسی اور طریعے سے ضروری تام مضروری اقدامات کر کے بیافتیار حاص کے کدوہ فرور قرار داور کی گل ورآید کریں اور قانون کے تب یک میں اور شام کریں اور شام کور میں اور شام کور کی سام کا کہ اس سلطان کو اس سلطان کور کا کہ سام کا کہ کا سام کی سام کریں اور شام کریں اور شام کی سام کی کی سام کی سام کی سام کی کی سام کی کی سام کی کی کی کی کر سام کی کی کر سام کی کی کر سام کی کی کر سام کی کر س	
And Grand	، دستاویزات،	کریٹرے دیٹیگ انجینیز میٹر دجشر اراور دیر میپرول اور ارتفاق کے تحت یا سی اور طریقے ہے ضروری آمام مروری الدامات کری برافقیار حاصل ہے کہ وہ ذکورہ تر ارداووں میٹل ورآ مدکریں اور قانون کے تحت یا سی اور ان میٹل ورآ مدکریں اور فدکورہ ورخواستوں تر ارداووں میں ترجم کریں ،ان میں ترجم کریں اور فدکورہ ہالقر ارداوں میں ترجم کریں اور ان میٹی کے ایجنوں اور دکیلوں کواس سیا تر ارداووں میں ترجم کریں ،ان میں ترجم کریں ور فدکورہ ہے اس کے تحت ان بی تا میں اور فدان کے اس کے جدیا تو اور ان دیکام اور افسان سے	
Bita Sq. a	الم مفرورتاء	یرافتیار حاصل سے کدوہ نداورہ فراردادول پر کادوا کید کریں اور نداورہ فی دھیم کریں اوران میل دوآ ند کریں اور نداور دوالوں کو اس اسے پیافتیار حاصل ہے کہ اور نداوروں میں ترمیم کریں ،ان میں ترمیم کریں ،ان میں ترمیم کریں ،ان میں ترمیم کریں ہے۔ اس کتھت اسے تمام افتیار ادا و کی کی تعدید کردو تنظافہ افراد، حکام اور افسران ہے اس کتھ میں مورد کیا دیکر متعافہ افراد، حکام اور افسران ہے اس کتھ میں کتاب کے اس کتھ میں کاری کام ،ایس ای بی بی بی تی کی دور کیا دیکر متعافہ افراد، حکام اور افسران ہے کہ اور کیا دیکر متعافہ افراد کیا میں کتاب کی بی بی کتاب کی بی بی کتاب کتاب کی بی بی کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب	
AND AT LA	سجمين سكوك	القاريمز كر تقوط و يروي و تقاول المالي المالي الى المالي الى كالموالية المالي المالية	
4-84	اكورانجام دين،	ا تھارٹیز کے خطوط وغیرہ پر دھنخذ اوران پر کن انگھ کریائے۔ اور مندرجہ بالان عمومیت سے تصویب کے بغیرہ دوسرکاری حکام،ایس ای ہی، ی فی می اور ایا دیکر متعاقد افراد، حکام اوراسران کے اور مندرجہ بالان عمومیت سے تصویب کے اجراء کے لئے ان می رضامندی حاصل کرنے اور سبوات فراہم کرنے کے لئے ضروری یا مناب ایسی کارروائی کریں جودہ سکوک کے اجراء کے لئے ان می رضامندی حاصل کرنے اور سبوات فراہم کرنے کے لئے صوروری اعمال اور کا مول ایسی کارروائی کریں جودہ سکوک کے اجراء کے لئے ان کی رضامندی حاصل کرنے اور سبوات کی ان کا اس کا میں اس کی میں اس کا میں اور کی اس کا میں اور کی اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کی اس کی کا کہ کی کے دور اس کا اجراء جودہ وضروری سبوات کی کرنے کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کا دور کی کرنے کی کرنے کے دور کی کے دور کی کی کرنے کے دور کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے	
明显视	111	اور مندرجہ بالانی عومیت سے تھسب کے بیمی دوسروان کا مسامندی حاصل کرنے اور سیدات فراہم کرنے کے لیے صروری یا مناسب ایسی کارروائی کریں جو دوسکوک کے اجراء سے لئے ان کی رضامندی حاصل کرنے اور سیجھیں ،ان تمام کاموں ،اعمال اور کا مول کے اجراء میں اور اس سلم میں ان تمام پابندیوں ،منظور یوں اورا جازتوں کا اجراء جود وضروری سیجھیں ،ان تمام کاموں ،اعمال اور کا اس کے بیمار کر اس کا میں میں میں میں اور کا ترسیل کر بیمار کی دوستان کی اور کی اور کی اور کی اور کی کے بیمار کی دوستان کی اور کی کے بیمار کی دوستان کے دوستان کی دوستان کرد	
	ی اور سلوک ہے	کے اجراء میں اور اس سلم میں ان کمام پاہلہ ہوں ، کوریٹی کئی ہو۔ ان کی شرائط پر بات چیت ، ان بڑیل ورآ نداور ان کی ترسیل کر ا بشول بغیر کی عد کے: (a) ورخواستوں بغیشٹون معاہدوں ، کشریک ، انٹر ٹیکنگرزیاد تگر وستاویزات کی شرائط پر بات چیت ، ان بڑیل ورآ نداور ان کی ترسیل کر ان	
	ملى بىتخطى تقىدىق	(a) ورخواستوں پیشیشز، معاہدوں، ستر ملٹ انگر السمار کا مرکز ہیں۔ مجوز واجراء کے لیے تمام ضروری یا مناسب کام کریں۔ معرفہ واجراء کے لیے تمام ضروری یا مناسب کام کریں۔	
	- 2 3Um	19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
#45 - 445 F	م المراجعة	جوز وا براء کے بعد اور قلیشنز اور دیگرتمام درخواستوں پیشیشنز ، حلف ناموں ، بیانات اور دیگر تمام و بیرا اور دستوں (b) نمور دورخواستوں اور قلیشنز اور دیگرتمام درخواستوں پیشیشنز ، حلف نامرول بغیر کی حد ، نظر خانی کی درخواستوں اور ایپلوں کے ۔ اور چیش اور مقرر کرنا ، جوایس ای پی پاسکوک کی نمدگورہ منظوری کے لئے ، بشمول بغیر کی حد ، نظر خانی کی درخواستوں اور ایپلوں کے ۔	
	- A - 163	اور پیش اور مقرر کرنا، جوای ۱۱ کاب یا کاب ا	
		ے شقوری ماصل کرنے متعلق ہیں۔	
		شيتر بولدر ك وشخط	
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	

الما الما : 8,0

م میں بیات ہے کا مودہ تارک کی جس میں واضح معلومات، شرائط وضوابط اور استحقاب کا چائے گا اور اس بات کہ میں بینا نے استحداد کا کام بنا کے۔ 6 میٹنی بیلٹ ہے کا مسووہ تیارک کی جس میں واضح معلومات، شرائط وضوابط اور استحقاب کا چائی کے انہا کے انہا کے انہا

Lahore, Wednesday 5 March 2025, 4 Ramazan 1446



LSE Ventures Limited

PROCEDURE FOR E-VOTING AND BALLOT PAPER

In continuation to the notice of Extra Ordinary General Meeting of LSE Ventures Limited (LSEVL/ "the Company") published on February 28, 2025 and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), the right to vote through electronic voting facility (e-voting) and voting by post (Postal Ballot) shall be provided to the members of the Company for special business agenda item in the manner and subject to the conditions contained in the said regulations.

M/S., Digital Custodian Company Limited, has been appointed as the service provider for E-Voting.

PROCEDURE FOR E-VOTING

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on March 12, 2025. Under the provisions of the Regulations, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business agenda item in its forthcoming Extra Ordinary General Meeting to be held on Thursday March 20, 2025, at 09:30 a.m in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. E-voting will start on March 17, 2025, at 09:00 AM and close on March 19, 2025, at 5:00 PM. Members can cast their votes at any time during this period.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, LSE Plaza, 19 Kashmir Egerton Road, Lahore or email at inamullah@lse.com.pk by March 19, 2025, one day before the Extra Ordinary General Meeting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and also available on the Company's website at www.lse.com.pk for download.

Ballot paper for voting through post at the Extra Ordinary General Meeting to be held on Thursday, March 20, 2025, at 09:30 a.m. at the Registered Office of the Company, in the auditorium, the Exchange Hub, LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton, Lahore.

Contact Details of the Chairman, at which the duly filled in ballot paper may be sent: Business Address: The Chairman, LSE Ventures Limited, the Exchange Hub, LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton Road, Lahore. Designated email address: inamullah@lse.com.pk

Name of shareholder/joint Shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	the Bank and to the triest camunication. The retains Extern

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (\checkmark) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Agenda #.	Nature and Description of resolutions	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
	RESOLVED THAT the approval of the shareholders, be and is hereby granted to issue LSE Ventures Limited Redeemable & Convertible Sukuk (the Sukuk) on the terms and conditions as set out in the Annexure-A, which includes, inter-alia, the following: 1. The Issue to be made to the existing shareholders of the Company. 2. Amount and timings of the Issue to be decided by the Board of Directors of the Company; 3. The amount of the Issue shall not exceed Rs. 2,155,174,560 and it can be issued in tranches or in full; 4. Sukuk are redeemable (in 04 years period with One year grace period) unless Sukuk are converted into ordinary shares of the Company on triggering events; 5. Conversion of the Sukuk into Ordinary shares shall be One Sukuk into 1.00 Ordinary Shares.	ares are held in	r Services Lim

2. Amount and timings of the Issu 3. The amount of the Issue shall ro or in full; 4. Sukuk are redeemable (in 04 converted into ordinary shares 5. Conversion of the Sukuk into Ordinary as per terms at Issuer Issue Size Maximum Issue Size Maximum Par/Nominal Value	years period with One year of the Company on triggering	grace period) unless Sukuk are events;	7
4. Sukuk are redeemable (in 04 converted into ordinary shares 5. Conversion of the Sukuk into Ordinary as per terms as Issuer Issue Size Maximum Issue Size Maximum	years period with One year of the Company on triggering rdinary shares shall be One Su nd conditions set-out in Annex	grace period) unless Sukuk are events; kuk into 1.00 Ordinary Shares ture-A. LSE Ventures	
Issue Size Maximum S. Conversion of the Sukuk into Or of the Company as per terms at Issuer Issue Size Maximum	rdinary shares shall be One Sund conditions set-out in Annex	events; kuk into 1.00 Ordinary Shares rure-A. LSE Ventures	
Issue Size Maximum S. Conversion of the Sukuk into Or of the Company as per terms at Issuer Issue Size Maximum	rdinary shares shall be One Sund conditions set-out in Annex	events; kuk into 1.00 Ordinary Shares rure-A. LSE Ventures	
Issue Size Maximum Issue Size Maximum	TO STANKE HARDERS SERVICES	LSE Ventures	
Issue Size Maximum Issue Size Maximum	C Share Regular Servi	LSE Ventures	
Issue Size Maximum	Rs.		
Issue Size Maximum	biaron ore r	To all tenters and a second	TO SOLICE OF THE PARTY OF THE P
Issue Size Maximum	Rs.		
THE PARTY OF THE P	114.	a svoce to ascorbin and the	AVIOTO PER PERE
THE PARTY OF THE P		2,155,174,560	WHEN THE SECOND
The state of the s	Nos.	71,839,152	Figure 1995
leave not	Rs./Sukuk	30.00	BH SHI YO MISH
Issue Price	Rs./Sukuk	30.00	M. AMOUNT OR STATE
Instalments Instalment Publishers	Nos.	and the same of th	Company (Company)
Instalments		6.00	SPIRIOR NE DEND
Conversion ratio	Rs./Sukuk	5.00	
	Nos.	1.00	Entracy 7 2 to 18
TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD	Nos.	179 597 880	una Calcada
Right Issue	%	STATE OF THE PARTY	
Shares on Conversion (Maximum)*	Noc		
Conversion Price	D- /es	71,839,152	
*This maximum conversion can be utilized for	honus Culud (a. d.	30.00	
the Board of Directors of the Company.	bollus sukuk (to the existing !	shareholders) if decided by	
b. The conversion ratio and other ten	ms and conditions of the Issue	will not be changed	
Company). The Board of the Dis-	xchange Commission of Pak	istan (and accepted by the	THE SAME STANKS
changes/alterations and no further	ectors of the Company will hav	e the power to accept the	
Company.	approval shall be required fro	im the shareholders of the	
Companies Art 2017 (and is accorded in terms o	f Section 83(1)(b) of the	
no.) ordinary shares of the Conversion of 71,8:	39,152 (maximum no.) Sukuk i	nto 71,839.152 (maximum	Muzica Sports
RESOLVED FURTHER THAT THE THAT			
Company from Rs. 2,000,000 000 divided lass	and is accorded to increase	authorized capital of the	
3,000,000,000 divided into 200 000 000	ordered ordered y share	s of Rs. 10,00 each to Re	2791 68
RESOLVED FURTHER THAT the approval be and	7 113. 10.00 each.		
the amendments in the Memorandum and Al	rticles of Association of the Co	mpany Secretary to make	
The authorized capital as follows:	and the Co	inpany for the change of	
100,000,000 (Three Hundred Asilian)	000,000,000 (Rupees Three Bi	llion only) divided into	10
RESOLVED FURTHER THAT the Subult about	in as of his. Luf- inupees len	only) each.	MARINE MERCHANIS
ssue, forfeit, surrender rectifuer athense	der the control of the Board of	Directors who may allot	unofar assessed h
orporations on such terms and conditions and	the same to such perso	ns, firms, corporation or	
ESOLVED ELIPTURE THE COMPANIES	Act, 2017.	ight fit, subject to and in	
ompany Secretary of the Company Visit of the	hereby accorded to authorize	the Chief Executive and	God to Laboration
Idnan Auditors, Credit Rating Agencylinal Co	astee, myestinent	Agent, Shariah Advisors	
Cessary and expedient to the to	me serior, and any othe	advisors and officers	
COULVED FURTHER THAT each of the Chief F.			200月 经建筑
nery authorized to give effect to the above r	esolutions and take all neces	sany steps are hereby	
quired and to sign and to amend, alter	the aforementioned resolut	ions as expedient and	
behalf of the Company is a large application	ns, documents, letters of a	uthorities etc. for and	IIP of Magazin
wers hereunder and to appoint	egoing and to further sub-de	legate any or all of his	omit beforeas
thout prejudice to the generality of the f	a according sof the Company	in respect hereof, and	
thorities, SECP, CDC, and/or other con-	and to applicach as he may	deem fit government	Yall
ion as he may consider necessary	recools, audiorities and offi	cers and to take such	ACO (BW gons
uance of the Sukuk and for facilities	and with a view to obtaining	their consent for the	il attologancia
missions that may be required in	cremital issue of all sanc	tions, approvals and	printing annuing
negotiate, the terminate they may deem negotiate, the terminate the term	cessary, including without lim	itation the fall-	
dertakings or other de-	r applications, petitions, ag	reements contract	
edient for the proposed issue of the cut	and deeds as	may be required or	lats blonged and
ign, verify and present and annity		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	Sittle of picture of
tions aforesaid and all other applications	cates in connection with the	ne applications and	1700 PD 275dm
documents relating to obtaining and	cattons, amuavits, statemer	nts and other papers	* 1
roval of the Sukuk, including without limitatio	n, review applications and	rity to the aforesaid	
	applications and a	ppeals."	Dimpo de posicio.
reholder(s)			
White design to the Share Help and the state of the state	The state of the s	Date:	
led postal ballot should be sent to Chairm	an at aba	ev therit to opposite of whom a	. Dogs of National
CNIC abandal	an at above mentioned pos	etal as an au	
civic should be enclosed with the party !	nallet fer	star or email address.	
CNIC should be enclosed with the postal to pallot forms should reach chairman of the pallot forms should reach chairman of the pallot forms should reach chairman of the pallot forms should reach chairman of the pallot forms should reach cha	pallot form.	atal or email address.	
	This maximum conversion can be utilized for the Board of Directors of the Company. 6. The conversion ratio and other ter directed by the Securities and E Company). The Board of the Directonages/alterations and no further changes/alterations and no further Company. RESOLVED FURTHER THAT the approval be Companies Act, 2017 for the conversion of 71,8 no.) ordinary shares of the Company. RESOLVED FURTHER THAT the approval be a Company from Rs. 2,000,000,000 divided into 300,000,000 ordinar RESOLVED FURTHER THAT the approval be and it the amendments in the Memorandum and A authorized capital as follows: The authorized capital of the Company is Rs. 3,100,000,000 (Three Hundred Million) ordinary stesolved Further That the Sukuk shall be unsayed for the companies of the Companies or proporations on such terms and conditions and a coordance with the provisions of the Companies ESOLVED FURTHER THAT the approval be and is company Secretary of the Company (singly) to appariah Auditors, Credit Rating Agency(ies), Successary and expedient to the Issue of the Sukuk shall be under law or otherwise and to amend, alternative and to sign and execute any application in behalf of the Company in relation to the forewers hereunder and to appoint agents and thout prejudice to the generality of the foregithorities, SECP, CDC, and/or other concerned the company of the Company of the Sukuk and for facilitating the missions that may be required in connection as he may consider necessary or expedition as he may consider necessar	Conversion ratio Shares Outstanding Nos. Right Issue Shares on Conversion (Maximum) Nos. Conversion Price Rs./Share *This maximum conversion can be utilized for bonus Sukuk (to the existing of the Board of Directors of the Company. 6. The conversion ratio and other terms and conditions of the Issue directed by the Securities and Exchange Commission of Pake Company. 6. The conversion ratio and other terms and conditions of the Issue of Irectors of the Company will have changes/alterations and no further approval shall be required from Company. RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is accorded in terms of Company. RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is accorded to increase Company shares of the Company. RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is accorded to increase Company from Rs. 2,000,000,000 divided Into 200,000,000 ordinary shares of Rs. 10.00 each. RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is accorded to authorize the Company from Rs. 2,000,000,000 divided Into 200,000,000 ordinary shares of Rs. 10.00 each. RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is accorded to authorize the authorized capital as follows: The authorized capital of the Company is Rs. 3,000,000,000 (Rupees Three Billow). The authorized capital of the Company is Rs. 3,000,000,000 (Rupees Three Billow). RESOLVED FURTHER THAT the Sukuk shall be under the control of the Board of sissue, forfeit, surrender, rectify or otherwise dispose of the same to such persorporations on such terms and conditions and at any such time as may be thou coordinated to give effect of the Companies Act, 2017. ESOLVED FURTHER THAT the approval be and is hereby accorded to authorize one proporations on such terms and conditions and at any such time as may be thoughness of the Company (singly) to appoint the Trustee, investment. RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is hereby accorded to authorize one proporations on such terms and conditions and at any such time as may be thou coordinated to the proposed in the company in relation	Conversion ratio Nos. 179,597,830 Right Issue Right Is

5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

and ensure that no confusion arise for voters that may defeat the objective of voting.

6. Company shall draft ballot paper whereby explicit information, terms and conditions and choice of selection is provided